



رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا

ﷺ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے اور بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ﷺ آپ نے ان سے پوچھا: رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟ وہ بولا: یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے تورات میں رجم کی آیت موجود ہے پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا لیکن رجم سے متعلق آیت کو ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا، تو وہاں آیت رجم موجود تھی اب وہ کہنے لگے: سچ ہے محمد! (ﷺ) چنانچہ آپ ﷺ نے حکم سے ان دونوں کو سنگ سار کر دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک جایا کرتا تھا

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی کریم ﷺ کے عہد میں یہودیوں کے اندر ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، تو وہ آپ ﷺ کی خدمت میں ان دونوں کا فیصلہ کرانے کے ارادے سے حاضر ہوئے وہ اس گمان میں تھے کہ شاید تورات میں موجود رجم (سنگ سار کرنا) کے حکم سے ملکی سزا انہیں مل جائے چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے تورات میں موجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی بابت دریافت فرمایا آپ کے دریافت کرنے کا مقصد اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ ان کی جگہ نسائی کا سامان کرنا تھا لیکن انہوں نے آپ ﷺ سے جھوٹ کہا کہ ان کے یہاں زناکاری کی سزار زانی اور زانیہ کو ذلیل و رسوا کرنا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو جھٹلایا اور جب انہوں نے تورات کھولی، تو اس میں شادی شدہ زانی کو رجم (سنگ سار) کرنے کا حکم ملا چنانچہ آپ ﷺ نے حکم سے دونوں کو سنگ سار کیا گیا ہماری شریعت دوسری تمام شریعتوں پر حاکم اور ان تمام شریعتوں کی ناسخ ہے البتہ نبی ﷺ نے اس حدیث میں یہودیوں سے رجم کی سزا کے تئیں تورات کا حکم صرف اس لیے دریافت کیا تاکہ ان پر ان ہی کی کتاب سے حجت قائم ہو جائے جس کے بارے میں وہ انکار کر رہے تھے کہ تورات میں شادی شدہ زانی کی سزا سنگ سار کرنا نہیں ہے، نیز اس لیے بھی کہ انہیں یہ واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں اس سزا کے حکم میں متفق ہیں جس میں (معاشرہ میں) فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت تنبیہ اور پھتکار ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2948>